

In terms of the requirement of Clause (g) of Section 2 of S.R.O. 1196(I)/ 2019 dated 03 October 2019; we are providing on the website of the Company with the following information relating to **Election of Directors - 2024:-**

a) PROXY FORM AND LIST OF SHAREHOLDERS

The following information has been placed 21 days prior to the date of election of Directors in compliance with the requirements of S.R.O. 1196(I)/ 2019 dated 03 October 2019:-

i) Proxy form has been placed on the website of the Company which may be accessed while surfing through the following link: -

<https://jcl.com.pk/form-of-proxy/>

Any candidate who wishes to inspect details of the list of shareholders of the Company, he/she may contact us at muhammad.adnan@jcl.com.pk to obtain the password protected file as specified in the circular as referred above.

b) NOTICE OF ELECTION OF DIRECTORS

JAVEDAN CORPORATION LIMITED

ELECTION OF DIRECTORS

Members of Javedan Corporation Limited (the Company) are hereby notified that pursuant to section 159 (4) of the Companies Act, 2017 (the Act) the following persons have filed notice of their intention in respective categories as required under regulation No.7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 with the Company to offer themselves for Election of Directors of the Company at the forth coming Annual General Meeting to be held on October 26, 2024 at 10:30 a.m. at Naya Nazimabad Gymkhana, Naya Nazimabad, Manghopir Road, Karachi and through video-conferencing:

For Election under 'Female Director' Category

Mrs. Darakshan Zohaib

For Election under 'Independent Director' Category

- Mr. Abdullah Ghaffar
- Mr. Shahid Iqbal Choudhri
- Mr. Muhammad Siddiq Khokhar

For Election under 'Other Director' Category

- Mr. Arif Habib
- Mr. Abdus Samad
- Mr. Muhammad Kashif
- Mr. Muhammad Ejaz
- Mr. Abdul Qadir

The profiles of the above-named candidates have been place at the Company's website i.e. www.jcl.com.pk. The Independent Directors meet the requirements of Section 166 of the Act and the Listed Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Since the number of persons who have offered themselves to be elected are not more than the numbers of directors fixed u/s 159 (1) of the Companies Act 2017, therefore the above named nine candidates shall be deemed to be Elected as Directors of the Company at the said Annual General Meeting of the company without any voting for a period of three years commencing from 26 October 2024.

By Order of the Board
Company Secretary

Karachi.
Dated: October 17, 2024

JAVEDAN CORPORATION LIMITED

جاوڈان کارپوریشن لمیٹڈ

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017ء (ایکٹ) کی دفعہ 159(4) کی پیروی میں بذریعہ ہذا جاوڈان کارپوریشن لمیٹڈ کے ارکان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل افراد نے کمپنی کے ہاں نیا ناظم آباد، نیا ناظم آباد، منگھوپر روڈ، کراچی پراورڈیو کا نفرنس کے ذریعے 26 اکتوبر 2024ء کو صبح 10:30 بجے منعقد ہونے والے کمپنی کے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے لیکچریشنز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019ء کے ریگولیشن 7A کے تحت درکار متعلقہ لیکچریشنز میں خود کو پیش کرنے کے لیے اظہارِ رُوسر جمع کرائے ہیں۔

"خاتون ڈائریکٹر" کیلگری کے تحت انتخاب کے لئے
محترمہ دارکشان زوہیب

"آزاد ڈائریکٹر" کیلگری کے تحت انتخاب کے لئے

- جناب عبداللہ خٹکار
- جناب شاہد اقبال چوہدری
- جناب محمد صدیق کھوکھر

"دیگر ڈائریکٹر" کیلگری کے تحت انتخاب کے لئے

- جناب عارف حبیب
- جناب عبدالصمد
- جناب محمد کاشف
- جناب محمد اعجاز
- جناب عبدالقادر

مذکورہ امیدواروں کے پروفائل کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.jcl.com.pk پر رکھی گئی ہیں۔ آزاد ڈائریکٹرز ایکٹ کی دفعہ 166 اور لیکچریشنز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018ء کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔

چونکہ منتخب ہونے کیلئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 159(1) کے تحت ڈائریکٹرز کی مقررہ تعداد سے زائد نہیں، لہذا بالا نامی نو (9) امیدواران 26 اکتوبر 2024ء سے شروع تین سالوں کی مدت کے لئے کسی دو ٹک کے بغیر کمپنی کے منتخب ڈائریکٹرز تصور کئے جائیں گے۔

بھگم بورڈ
کمپنی سیکرٹری

کراچی، مورخہ 17 اکتوبر 2024ء

c INFORMATION WITH RESPECT TO ELECTION OF DIRECTORS

Additionally, the following information has also been provided with respect to Election of Directors:-

a) DETAILS OF PROXIES SUBMITTED

Sr. No:	Folio No:	Name of Shareholders	CNIC No.	No. of Shares	Proxy Appointed
01	06452-3617	Mr. Muhammad Kashif	42000-0548038-3	5,854,335	Mr. Abdus Samad
02	06452-27	M/s. Arif Habib Limited	25484460	16,037,490	Mr. Abdus Samad
03	03277-95445 06452-8640	M/s. Arif Habib Corporation Limited	07096941	134,495,637	Mr. Abdus Samad
04	06452-13087	M/s. Arif Habib Equity (Private) Limited	25352661	34,243,258	Mr. Abdul Samad
05	10629-45	M/s. AKD Securities Limited	29083630	42,796,667	Mr. Abdus Samad
		<i>Total Valid Proxy received</i>		233,427,387	
		Capital		380,860,447	
		%age		61.29	
		<i>Total invalid Proxy received</i>			